

OUTLINES OF HOME ECONOMICS PAPER-II

آؤٹ لائنز آف ہوم اکنامکس پرچہ - دوسرا

(OLD SCHEME) (اولڈ سکیم)

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 17

کل نمبر = 17

نوٹ - ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ Bubbles پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز محل نہ کریں۔

The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve question on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) The best sources of Vitamins and Minerals are:-
(A) Pulses دالیں (B) Fresh fruits and vegetables تازہ پھل اور سبزیاں (C) Eggs انڈے (D) Meat گوشت
- (2) The diet of children, should have more proportion of:-
(A) Vitamins حیاتین کا (B) Minerals معدنی نمکیات کا (C) Fats چکنائی کا (D) Proteins لحمیات کا
- (3) If antibodies are not produced in the body then:-
(A) Anaemia occurs اینیما ہو جاتا ہے (B) Resistance power develops قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے (C) Weakness occurs کمزوری ہو جاتی ہے (D) Resistance power develops قوت مدافعت پیدا نہ ہوتی ہے۔
- (4) ___ element present in the chemical composition of protein is especially important for growth:-
(A) Nitrogen نائٹروجن (B) Oxygen آکسیجن (C) Carbon کاربن (D) Hydrogen ہائیڈروجن
- (5) ___ is the deficiency disease of Niacin.
(A) Beriberi بیریری (B) Pellagra پیلگریا (C) Scurvy سکروی (D) Edema ایڈیما
- (6) ___ hours sleep is necessary to maintain health.
(A) Four to six چار سے چھ (B) Six to eight چھ سے آٹھ (C) Eight to ten آٹھ سے دس (D) Ten to Twelve دس سے بارہ
- (7) Proteins are made up of:-
(A) Carbohydrates نشاستہ (B) Fats چکنائی (C) Sulphur سلفر (D) Amino Acids امینو تیشوں
- (8) ___ is required for the proper absorption of Calcium and Phosphorus.
(A) Protein پروٹین (B) Fats چکنائی (C) Vitamin D وٹامن ڈی (D) Vitamin C وٹامن سی
- (9) "Retinol" in animal foods and "Carotene" in plant foods after going into intestines converted into ___ vitamin.
(A) A اے (B) C سی (C) B بی (D) D ڈی
- (10) Daily requirement of Iron for an adult girl is:-
(A) 12 mg بارہ ملی گرام (B) 15 mg پندرہ ملی گرام (C) 20 mg بیس ملی گرام (D) 25 mg پچیس ملی گرام
- (11) Vitamin ___ is essential for the coagulation of blood.
(A) B بی (B) E ای (C) K کے (D) C سی
- (12) The deficiency disease of Vitamin C is:-
(A) Night-blindness شب کوری (B) Rickets ریکٹس (C) Beriberi بیریری (D) Scurvy سکروی
- (13) ___ regulate the human body system.
(A) Proteins لحمیات (B) Fats روغنیات (C) Vitamins and minerals وٹامنز اور معدنی نمکیات (D) Carbohydrates کاربوہائیڈریٹس
- (14) The function of stitch regulator is:-
(A) To wind bobbin پھر کی بھرنا (B) To make stitch long and short ٹانکا چھوٹا بڑا کرنا (C) To fix spool on pin ننگی لگانا (D) To tighten needle سوئی کسنا
- (15) ___ is used to make designs in computerized sewing machine.
(A) Different discs مختلف ڈسک (B) Threads دھاگے (C) Ripper رپر (D) Scissors قینچی
- (16) Act of purchasing depends upon:-
(A) Variety ورائٹی پر (B) Financial capacity مالی استطاعت پر (C) Wise buying سمجھ بوجھ پر (D) Needs ضروریات پر
- (17) The name of linen plant is:-
(A) Egg plant ایگ پلانٹ (B) Cotton plant کاٹن پلانٹ (C) Silk Plant سلک پلانٹ (D) Flax plant فلکس پلانٹ